



سوال

(96) خیر الامور او سطحاً ضعیف ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لوگوں کا کہنا "کاموں میں بہتر کام ان کے درمیانے ہیں" کہاں تک صحیح ہے؟ یہ حدیث ہے یا مقولہ؟ (انوکم جمیل)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ ضعیف حدیث ہے امام بیہقی (3/273) میں کنانہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبیؐ نے دو شہرتوں سے منع فرمایا ہے، یہ کہ لہجھا پسنے تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں یا گھٹیا اور بوسیدہ پسنے تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں۔ عمرو (حدیث کے ایک راوی) کہتے ہیں مجھے رسولؐ سے یہ بات پہنچی ہے آپؐ نے فرمایا، دونوں امور میں درمیانہ امر، اور امور میں بہتر امر ان میں درمیانہ ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں، یہ مستفیع ہے۔

نکالا اسے قرطبی نے (2/154)، (5/343)، (6/271) میں اور عجلونی کی کشف الخفاء (1/391) رقم (1247) میں ہے "یہ ضعیف ہے" اور الاتحاف (8/13)، (7/336) میں ہے "کہا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے"

اور دوسری سند کے ساتھ اس میں ایک راوی مجہول ہے، اور دیلمی میں بلا سند ہے۔

اور المقاصد الحسنہ رقم (ص: 205 اور 455) میں ہے "یہ حدیث ضعیف ہے"

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ الدین الخالص

ج 1 ص 203



محدث فتویٰ